

الدَّرْسُ الْخَمْسُونَ

فِي مَسَاعِدَةِ الْبَائِسِينَ
(الشَّعْرُ)

١- قَالَ حَافِظُ إِبْرَاهِيمَ :

وَعَجَزْتُ عَنْ شُكْرِ الَّذِينَ تَجَرَّدُوا
 لِلَّهِ دَرَهُمْ فَكَمْ مِنْ بَائِسٍ
 تَرْمِي بِهِ الدُّنْيَا مِنْ جُوعٍ إِلَى
 لَوْلَاهُمْ مَلَقَضَى عَلَيْهِ شَقَاؤُهُ
 لِلَّهِ دَسْرُ السَّاهِرِينَ عَلَى الْأُلَى
 الْقَائِمِينَ بِخَيْرِ مَا جَاءَتْ بِهِ
 لَا تَهَلُّوا فِي الصَّالِحَاتِ فَاتَّكُمُ
 فَتَسَابِقُوا الْخَيْرَاتِ فِيهِ أَمَا مَكُمُ
 وَالْمُحْسِنُونَ لَهُمْ عَلَى إِحْسَانِهِمْ

لِلْبَاقِيَاتِ وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ
 جَمِّ الْوَجِيعَةِ سَيِّئِ الْأَحْوَالِ
 عُرِي إِلَى سُقْمٍ إِلَى أَوَّلِ
 وَخَلَا الْمَجَالُ لِحَاطِفِ الْأَجَالِ
 سَهْرُ وَامِنْ الْأَوْجَاعِ وَالْأَوْجَالِ
 مَدَنِيَّةِ الْأَذْيَانِ وَالْأَجْيَالِ
 لَا تَجْهَلُونَ عَوَاقِبَ الْإِهْمَالِ
 مَيْدَانُ سَبَقِ الْجَوَادِ النَّالِ
 يَوْمَ الْإِثَابَةِ عَشْرَةَ الْأَمْثَالِ

وَجَزَاءُ رَبِّ الْمُحْسِنِينَ يُجِبُ عَنْ
 عَدْوٍ وَعَنْ وَزْنٍ وَعَنْ مِكْيَالٍ

٤ وَقَالَ الْغُورِيُّ مَا رُونَ غَضَنَ فِي قَصِيدِهِ "أُنِينَ الْجِيَاعُ"
 ذَابَتْ حُشَا شَنَا جَفَّتْ مَا قِينَا
 يَا سَامِعِينَ بِكَ الْأَطْفَالَ مَا لَكُمْ
 أَيْنَ الْإِخَا وَالْوَفَا وَالْعَهْدُ وَالذِّمَمُ
 يَا نَائِمِينَ عَلَى فُرُشِ الْهِنَا عَتَبُوا
 إِنْ لَمْ تَهْتَبُوا الْفِعْلَ الْخَيْرَ فَانظُرُوا
 يَا رَبِّ يَا مُصَدِّقَ الْإِحْسَانِ وَالنِّعَمِ
 وَأَحْفَظَ لَهُمْ فِي السَّمَاءِ الْكَلِيلَ أَجْرِهِمْ
 وَنَجَّيَهُمْ مِنْ بَلَايَا الدَّهْرِ آمِينَا

الْأَسْئَلَةُ وَالتَّمَارِينُ

- ١- أَجِبْ / أَجِيبِي عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَةِ :
- أ- عَنْ شُكْرِ مَنْ عَجَزَ الشَّاعِرُ "حَافِظُ إِبْرَاهِيمِ" ؟
- ب- إِلَى مَنْ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ "؟" فِي الْبَيْتِ الثَّلَاثِ "لِحَافِظِ إِبْرَاهِيمِ" ؟
- ج- إِلَى مَا تَرْمِي الدُّنْيَا النَّائِسِينَ حَسَبَ قَوْلِ الشَّاعِرِ حَافِظِ إِبْرَاهِيمِ ؟
- د- عَمَّا هِيَ الشَّاعِرُ الرَّعْنِيَاءُ فِي الْبَيْتِ السَّابِعِ مِنَ الْقِطْعَةِ الشَّعْرِيَّةِ الثَّانِيَةِ ؟
- و- بِأَيِّ شَيْءٍ هَدَّدَ الشَّاعِرُ الْأَعْيَاءَ النَّائِمِينَ بِهِنَاءٍ ؟

١- بَأَيِّ عِبَارَةٍ دَعَا الشَّاعِرُ لِلْمُحْسِنِينَ ؟

٢- اِسْتَعْدِمُ / اِسْتَحْدِي الكَلِمَاتِ الْاِتْيَاءِ فِي جَمَلٍ مُفِيدَةٍ:

بَالِسُّ، جُوعٌ، سَاهِرٌ، عَيْشَةٌ، سُخْطٌ

٣- (الف) الِاسْمُ الَّذِي تَحْتَهَا خَطٌّ فِي الدَّرْسِ مَفَاعِيلٌ اُدْكُرْ /

اُدْكُرِي نَوْعَ كُلِّ مَفْعُولٍ مِنْهَا وَعَلَامَةَ اِعْرَابِهِ.

(ب) اِسْتَخْرَجْ / اِسْتَخْرِجِي مِمَّا يَأْتِي الْمَفَاعِيلُ وَبَيْنَ / بَيْنِي نَوْعَ كُلِّ مِمَّا:

١- وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.

٢- وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ.

٣- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.

٤) مَاتَ / مَاتِي مُفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ وَجُمُوعِ الْمَفْرَدَاتِ الْاِتْيَاءِ.

سَقَمٌ، اَجْمَالٌ، اَوْجَاعٌ، اَجْيَالٌ، عَوَاقِبُ، اَلْخَيْرَاتُ،

عَدٌّ، وَزْنٌ، جِيَاعٌ، الْمَآفِ، اَنْبِيَاءٌ، بَلَايَا.

٥- اِمْلَأْ / اِمْلِئِي الْفَرَاغَ بِالْحَرْفِ الْجَائِرِ الْمُنَاسِبِ:

١- عَجَزْتُ شُكْرُ الْمُحْسِنِينَ.

٢- جَزَاءُ رَبِّنَا يَجِبُ عَدِيَّ وَزْنٍ وَمِكْيَالٍ.

٣- سَهْرَ الْمَرِيضِ الْوَجْعِ.

٤- اَللّٰهُمَّ نَجِّنَا بَلَايَا الدَّهْرِ.

۶۔ صَرَفٍ/صَرَفِي الْأَفْعَالِ الْآيَةِ تَصْرِيفَ الْمَاضِي وَالْأَمْرِ،

يَجِلُّ، يَعْدُ

۷۔ زِن/زِنِي الْأَفْعَالِ السَّالِيَةِ وَعَيْنِ/عَيْنِي الْحُرُوفِ الزَّائِدَةِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِنْهَا؛
تَجَرَّدُوا، أَقَلَّ، لَا تَهْمِلُوا، تَسَابَقُوا، تُمِدُّونَ، اِعْتَبِرُوا، نَجَّ

۸۔ صَوِّحَ/صَوِّحِي الْجُمْلِ الْآيَةِ:

۱۔ صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ

۲۔ أَكْرَمُوا الْأُمَّهَاتَ

۳۔ أَحْمَدُ أَحْبَبَ مِنْ شُرْبِ بَيْرٍ

۹۔ تَرْجِمَ/تَرْجِمِي إِلَى الْعَرَبِيَّةِ:

۱۔ نیک کاموں میں کوتاہی نہ کرو۔

۲۔ کوتاہی کے انجام سے انجان نہ بنو۔

۳۔ خوشحال زندگی کے پیچھے بد حالی بھی آتی ہے۔

۴۔ اللہ دکھی لوگوں کو بھولنے والا نہیں۔

۵۔ اے اللہ ہمیں زمانے کی مصیبتوں سے بچا۔

الْمُفْرَدَاتُ

بین النکت العربیة والباکستانیة

النکت (ن. ک. ت) لطائف
خوش کن مجلے واحد نکتہ
الدعایہ (د. ع. ب) ہنس مذاق کرنا
خوش طبعی کرنا۔ چھیڑھا کرنا
آفاکیہ (ف. ک. ہ) تعجب انگیز باتیں۔
خوش طبعی کی گفتگو حیران کن مزاحی گفتگو
واحد اُفکُوہۃ

سینخا (س. بی. رخ) سکھ
النسَل (س. ل. ل) وہ چپکے کھک
گیا۔ خاموشی سے غائب ہو گیا۔
یولعد (ر. ع. د) وہ کانپتا ہے۔
کپکپاتا ہے۔

یستر جمع (ر. ج. ع) اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
الیہ راجعون پڑھنا ہے۔
انہمات (ا. ز. م) بحران بمصیبت سختی
واحد ازوۃ
مَرِح (م. ر. ج) خوش رہنے والا
خوشی میں مست
جمع مَرِحٰی و مَرِحٰی

سبق نمبر ۲۸

الدّس الثامن والعشرون

الرسائل

السواد (س. و. د) اردگرد کے علاقے، بستیاں

سبق نمبر ۲۶

الدّس السادس والعشرون

السید جمال الدین الافغانی

رعیل (ر. ع. ل) سرخیل۔ قائد لیڈر۔ جمع رطال
تَدَعْرَع (ر. ع. ر. ع) وہ جوان ہوا۔ اس سے نثر و نثرانی
البیۃ (ب. و. و. ۶۰) محل۔ منزل۔ مقام
محل وقوع۔ جمع بیات
فتحول (ح. و. ل) وہ منتقل ہو گیا۔

المکانة المرموقة (ر. م. ق)

بلند و مشکل مرتبہ

فتامروا (ا. م. ر) تو انہوں نے سازش کی
خاصنت (ع. و. م) غوطہ لگائیں۔

سلاحف (س. ل. ج. ف) کچھوے
واحد سلحفاة

یَدَسُوْنَ (د. س. س) وہ سازش کرتے ہیں
یَخْتَلِعُونَ (خ. ل. ق) وہ گھڑتے ہیں۔
نمود ساختہ باتیں بتاتے ہیں۔

الاقاویل (ق. و. ل) قول سے جمع اقوال
اور جمع الجمع اقاویل

بطینینما (ط. ن. ن) انکی (مکھیوں)

بجھنا ہٹ

سبق نمبر ۲۷

الدّس السابع والعشرون

مصافحات مع أسودۃ

فرداً (ف. د. د) الیلاہ

ولیکلمنت (م. ک. ن) تاکر وہ قوت اذکار

المؤنۃ (م. ۶. ن) بوجھ جمع مؤن

الرضیۃ (ر. ز. ۶) بڑی صیبت جمع رضیا

الشقة (ش. ق. ق) منزل مقصود جمع شقق

شاہرین (ش. ہ. ر) توار سونے ہونے

واحد شاہر

مصدق (م. د. ق) سچے جانے گئے

یقرضون (ق. ر. ن) وہ لئے کٹے پائیں

یقرضون بالمقارین - وہ تہنی

سے کٹے جاتے ہیں۔

ولاتشاقوا (ث. ق. ل) اور تم سستی

مت کرنا بوجھل مت ہونا

سبق نمبر ۲۹

الدرس التاسع والعشرون

التلفزيون

وحدة تتكلم عن بعد

ریورٹ کنٹرول

حماس (ح. م. س) جوش طیری

اعتاد

التسلط (س. ل. ط) میں اسے قابو

کروں کنٹرول کروں

مارف (م. ر. د) نافرمان سرکس

جمع مسرودہ

احلامی (ح. ل. م) میرے خواب

واحد حلم

یقظتہ (ی. ق. ظ) اس کا جاگنا

جہاننا معتقد (ج. ہ. ز) پیچیدہ جانچ

الملتون (ل. ر. ن) زنجین

التفریح (ف. ر. ج) تفریح/تماشہ

استغرق (غ. ر. ق) کھلا کر ہنسنا/

(فی الضحك) خوب ہنسنا/تہقیر لگانا

الدرس الثلاثون سبق نمبر ۳۰

فی حب الوطن

رجع الصدی (ر. ج. ع) آواز گونج

کہ واپس لوٹنا/مدتہ بازگشت

ألب (ل. ب. ی) میں جواب دوں/

لیک کہوں

اشبالها (ش. ب. ل) اسکے شیر کے

بچے/واحد شبل

غالی دمی (غ. ل. ی) میرا جوش مارتا

ہوا خون/میرا قیمتی خون

أمانی (ا. م. ن) خواہش واحد امنیۃ

المفتدی (ف. د. ی) جسے فرید کہنا چاہتے

محتاج (ح. ج. ب) پھاپا ہوا۔ اپر وہ

ووریت (و. ر. ی) تو پھاپا گیا/

تو دفن کیا گیا۔

باد (ب. د. و) ظاہر

ذہری (ذ. ر. ی) اونچی جگہیں/

اعل مراتب واحد ذرورۃ

حلی (ح. ل. ل) میرا قیام کرنا/منزل پر ٹھہرنا

ترجالی (ر. ج. ل) میرا کوڑھ کرنا

أعتق (ع. ت. ق) بہت پرانا ہونا

حاکمها العام الاول پہلا گورنر جنرل

مواہبنا (و۔ ہ۔ ب) ہماری ملائیں

واحد موهب

مواہرۃ دولیۃ

بین الاقوامی سارمش

محاصيل (ح۔ ب۔ ل) آمدنی۔ زمین

کی پیداوار واحد محصول

سبق نمبر ۳۳

الدرس الثالث والثلاثون

في المصرف

مصرف (م۔ ر۔ ف) بینک جمع معمار

لَقَّتْ (ل۔ ف۔ ت) تو نے توجہ دلائی

الشبكة (ش۔ ب۔ ی۔ ک) چیک جمع شیکات

البنوك المتوفقة (و۔ ف۔ ر)

بہت سے بینک

مُدسّر اع (د۔ و۔ د) ڈائریکٹرز

واحد مدیدر

العُملة الوطنية (ع۔ م۔ ل) ملکی کرنسی

البضائع الاجنبية (ب۔ ض۔ ع)

غیر ملکی سامان تجارت واحد بضاعة

أَسْحَبَ (س۔ ح۔ ب) میں نکالتا ہوں

حاصل کرتا ہوں

المصدر وكن (م۔ و۔ ر) برآمد کرنے

ولہ واحد مصدر

المستور دون (و۔ ر۔ د) درآمد

کرنیوالے واحد مستور

حَلَّلْ (ط۔ ل۔ ل) طیلہ جمع اطلال

شتری (ث۔ ر۔ می) نمدار می۔ زمین

جمع اشراف

اليد (ی۔ و۔ ی) نعمت۔ احسان

فیض جمع ییدی

سبق نمبر ۳۱

الدرس الحادی والثلاثون

الاحاديث النبوية

(صوت العباد)

يشتمتہ (ش۔ م۔ ت) وہ جب چھینکے

تو اے رحمت اللہ کہہ کر دعا کیے

عطس (ع۔ ط۔ س) چھینک لینا

صحابتي (ص۔ ح۔ ب) میرے چلنے والے

حسن سلوک

بَوَالِغُ (ب۔ و۔ ق) شہرت بمعیت

برائی واحد بائغہ

يَعْرَضُ (ع۔ ر۔ ض) اعراض برتتا ہے

روگردانی کرتا ہے

شَبَّكَ (ش۔ ب۔ ک) ایک دوسرے

میں داخل کیں آپس میں ملائیں۔

سبق نمبر ۳۲

الدرس الثاني والثلاثون

باكستان . الارض الطاهرة

واستقلت (ق۔ ل۔ ل) وہ آزاد ہو گیا

يُمَثِّلُ (م۔ ث۔ ل) وہ نمائندگی کرتا ہے

كفاح (ك۔ ف۔ ح) جدوجہد

سخت مقابلہ

فَضَّ (ف.ض.ض) فِضْرًا بَجْرَانَةٍ
رِيزَه رِيزَه هُوَ جَانَةٌ

ضَارِع (ض.ر.ج) عَابِرِي كَرْنَه وَاللَا
لَا بَسَّ (ل.ب.س) وَهَ طَائِفًا كَرَكَ اسْ كَبِيحِي
اصِلًا (ص.ل.د) سَخِيَا وَامِدَّ صَكَا
صَفَا (ص.ف.و) چِثَان

تَعْرِقِي (ع.ر.ق) تَوْرِي كُورَتِ هَبِيحِي جَدَّ كَرَجِي
مَارُت (م.ر.س) تَوْنَه مَشْ كِي جَه كُوشِ كِي هَبِي
هَتَوِي (ه.و.ي) بِنِي سِي نِيچِي كِي طَرَفِ كَرَا

مِهْرَدَا (ب.ر.د) رِيَتِي جَمْعِ مِهَارِدِي
أَبْدَاهَا (ب.د.ء) اسْكَاشُوعِ - اِبْتَلَا
مَحْتَلِي (ح.ت.د) اَصْلُ حَسْبِ لَسْبِ
قَرَاه (ق.ر.ي) اسْ لَهْ كِي مِي زَانِي كِي

كَلَكَلَه اسْ كَا سِي نَه
الضَّيْم (ض.ي.م) ظَلَمَ زِيَادَتِي

الدَّسَّ البَادِسَ وَالثَّلَاثُونَ سَبَقَ عُنْبَرِي ۳۶

فِي الْمَسْتَشْفَى

لَلْكَفِّ (ك.ش.ف) مَعْلَمَتِي كِي يَه

دَوْرَك (د.و.ر) بَارِي - نَمْبَر

قَلْقَا (ق.ل.ق) بَلِي چِي نِي سِي

رَعِشَة (ر.ع.ش) كِي چِي كِي لَزَه

صِلَاع (ص.د.ع) سَرْدَر

غَشِيَان (غ.ش.ي) غَشِي بَلِي بُوْطِي

دَوْخَة (د.و.خ) سَرَكْرَا جَمْعِ دُوْخِ

اسْتَلَقَ (ل.ق.س) سِي دِي لِيْثِ جَاوْ

المَخْتَبَر (خ.ب.ر) لِيَا بَرِي جَمْعِ مَخْتَبَرَاتِ

الاشْتَقَة السِّيْنِيَة (ش.ع.ع) اِي كِي كِي

تَتَعَاطَى (ع.ط.و)

لِيْتِي سِي

سَبَقَ عُنْبَرِي ۳۳

الدَّسَّ الرَّابِعَ وَالثَّلَاثُونَ

مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(كَمَا يَرَاهُ مَفْكَرُ الْغَرَبِ الْمُنْصِفُونَ)

ذَلْف (د.ل.ف) قَرِيْبِ هُوَ كِي

مَحْصَت (م.ح.ص) جَانِخِ پَرِيَالِ
كِي كِي

وَنَزَنَتْ (و.ز.ن) وَزَنِ كِي كِي

وَضَاعَتْ (و.ض.و) چَمَكْرِي نَوَاصِيْتِ

سَبَقَ عُنْبَرِي ۳۵

الدَّسَّ الْخَامِسَ وَالثَّلَاثُونَ

فِي الْعَزْمِ وَالْهَمَةِ الرَّفِيعَةِ

الرَّدِي (ر.د.ي) هَلَكْتِي / شَكْتِي

سَطَا (س.ط.و) اسْ نِي هَمَلِ كِي

عَدَا (ع.د.و) وَهَ تِي نِي سِي

آتِي / سَبَاگِ كَرَا تِي

جَمْرَة (ج.م.ر) اِنْكَارَه /

چَنگَارِي جَمْعِ جَمَارِ بَجْرَانَتِ

أَظْمَأَ (ظ.م.ي) مِي پِيَا سِي هُو

المَجْتَرَة (ج.د.ر) كِهْ كَشَان

مَوْرَدَا (و.ر.د) گَمَاثِ جَمْعِ مَوَارِدِ

وَاطِي (و.ط.ي) پَاپَالِ كَرِي نَوَالَا - چَلْنَه وَالَا

الصَّخْرُ الْأَصَمُّ (ص.خ.ر) بِي نِي نَخْتِ چِثَان

صَلِيًّا (م. ل. ی) کچھ دیر دیکھتے ہوئے
سبق نمبر ۳۷
الدس السابع والثلاثون

من هدى القرآن الكريم
وهن (و. ه. ن) کمزوری ضعف
فصالة (ف. ص. ل) اس کا بدل کرنا
اس کا دودھ پھرانا
ولخفض (خ. ف. ض) تو جھکا دے
پست کر دے

للأولين (و. ب) اللہ تعالیٰ کی
طرف بہت رجوع کرنے والوں کیلئے ولما اوتاب
لامتنورا (ب. ذ. ر) فضول خرچی مت کر
العابراجنب (ج. ن. ب) دور کے ہمارے
مختالا (خ. ی. ل) ٹکڑے ٹکڑے کرنا

سبق نمبر ۳۸

الدس الثامن والثلاثون

الدول العربية

لواة (ن. و. ی) قدیم عربی میں بی بیچ، تخم کیلئے
استعمال ہوتا ہے۔ جدید عربی میں ایٹم کے مرکز کے لیے
استعمال ہوتا ہے۔ جمع نويات
تتناحز (ن. ج. ح. ر) آپس میں بہت
زیادہ خونریزی کرتے۔

كتلة نرك (ت. ل) ایک راتے پہ
متفق جماعت/مالک کے گروہ/بلک جمع کتل
القاص (ن. ق. ض) سقوط ختم ہونا
لمخلالها (ح. ل. ل) اس کے ٹکڑے ہو جانا
كفاح مری (م. ر. ر) اذیتناک جلا و جہد

سبق نمبر ۳۹

الدس التاسع والثلاثون

جلالة الملك فيصل المعظم

خيرة (ح. ی. ر) منتخب. فائق
أكتفاء (ك. ف. ع) ہمسر ہم پلہ
لائق واحد الكف
الأفذاذ (ف. ذ. ذ) مفرد جو نظیر
واحد فذہ

أعلام (ع. ل. م) بڑے آدمی بڑا واحد علم
السامح (س. م. ح) دگر دگر کرنا۔ نرمی برتنا
البدخ (ب. ز. خ) فخر و نخوت
التترف (ت. ر. ف) عیش و عشرت
دعوة مسعية (د. ع. و) سرکاری دعوت
مجلس (ن. ج. ل) اسکا بیجا جمع المجال
انتداب (ن. د. ب) اس نے نمائندگی کی
يحتفي (ح. ف. ی) بھینٹ دینا
أبان (ب. ی. ن) ظاہر کیا۔ واضح کر دیا
لمرافقتہ (ر. ف. ق) اس کا ساتھ دینے کیلئے

الدس الاربعون سبق نمبر ۴۰

في وصف الطبيعة

المان (ب. و. ن) ایک درخت جس
کے پتے بید کی طرح ہوتے ہیں۔
حللا (ح. ل. ل) پورشا کیں پہننے ہوتے
وامحلاة

قواضلها (ف. ض. ل) اسکی مہرائیاں
اسکی عظیم نعمت و عطیہ واحد فاضله

هَشْت (ہرش بش) خندہ رو
ہوئی ہشاش بشاش ہوا

واجباً (و.ج.م) غمزہ
ناگواری کی کیفیت میں ہونا

لطین (ط.ل.ل) جھانکنے میں

تَصَيَّق (ص.ف.ق) آلیاں بجاتے ہیں

ماءِ دافِقَات (د.ف.ق) اچھلتے

کودتے پانی میں جوش مارتے ہوئے

جَذْلان (ج.ذ.ل) جوشِ غم ہونا

وَأَهْمَان (و.ل.ه) جوشِ دُخُون

سے بھرا ہوا ہے خودی کا عالم

مُغْف (غ.ف.د) بگی نیند سوتی۔ ادھی

مَلَاعِج (م.ل.ی) بھرا ہوا

الصَّعِيد (ص.ع.د) میدان

مُنْدَس (س.ن.د) دس

باریک ریشم

هَضَاب (ه.ض.ب) ٹیلے

ادھی زمین واحد مَعْنِيَّة

مَيْسَم (م.س.م) حن جہاں بوجھتی

تَفِيض (ف.ی.ض) بہت زیادہ

کثرت سے بہت

سَبَق نَبَدَاء

الدَّسِ المَادِي وَالْأَرْبَعُونَ

فِي مَحَطَّةِ الْقَطَارِ

لَوْ سَمِحَتْ (س.م.ع) اگر آپ اجازت دیں

لَا بَأْسَ (ب.و.س) کچھ مضائقہ نہیں

الرَّصِيف (ر.ص.ف) پلیٹ فارم

جمع امر صَفَة

الکَثْبَان (ک.ث.ب) ریت کے ٹیلے

ریت کے اونچے ڈھیر واحد کَثْبَان

الدَّفْع (د.و.ج) بڑے پھیلے ہوئے

درخت واحد دَفْعَة

كَقَل (ک.ف.ل) پھیلا جتنے جمع الْكِفَال

ذَوَائِب (ذ.ع.ب) پیشانی کے بال

زلفیں واحد ذَوَائِبَة

بَسُط (ب.س.ط) دریاں۔ چادریں

فَرَش. واحد بَسَاطَة

يَقَق برف کی طرح سفید جمع يَقَائِق

فَاقِع (ف.ق.ع) زرد رنگ میں گہرائی دینا

خالص و صاف

قَان بہت زیادہ گہرا سرخ

الْخَمَائِل (خ.م.ل) گنے دختوں کا مجموعہ

گنے باغات واحد خَمِيْلَة

يَخْطُر (خ.ط.ر) جھومتی ہیں۔

لَشْوَان (ل.ش.ی) پہلا نشہ

ہلکا ہلکا سرور

سَلَابِل (س.ل.س) زنجیریں واحد سَلَابِلَة

الرَّيْحَانِ خوشبو/خوشبودار پودا

بازو جمع رِيْحَانِيْنَ

أَمْ نَجْمًا (ا.ر.ج) اسکی خوشبو

رَقْرَقَة (ر.ق.ر.ق) چمکتی ہوئی

مَعْبَد سونا

يَقْضَرُم (ق.ض.م) جھوکتا ہے۔

السَّخْوَح (س.ف.ج) دان کوہ واحد سَخْوَح

الذَّهْرِي (ذ.ر.ی) بلندیوں کا واحد ذَهْرِيَّة

مَذْخَرَفَة (م.ذ.خ.ر) مزین و پرچال ہیں

تَشْيِيقُوكِ (ش. ی. ع.) تم لوگ
جانوں کے ساتھ چلتے ہو

مُحَبَّةُ (ن. ح. ب.) اسکی موت
وقت. جمع محب

صَدْعٌ (ص. د. ع.) گڑھا، بگاف، قبر
مُؤَيَّدٌ (و. س. د.) بیکھ رکھے ہوئے

مَهْمَدٌ (م. ه. د.) بچا ہوا بستر
لحمی (ل. ح. م.) میرے رشتہ دار

اہل قرابت

يَلُونَنِي (و. ل. ی.) مجھ سے محبت کرتے ہیں
عَصَاةٌ (ع. ص. ر.) عیش و عشرت

زندگی کی آسودگی و شادابی

ذُلُولًا (ذ. ل. ل.) مطیع ہونا، تابع ہونا
سبق نمبر ۴

الدس الرابع والاربعون

مَبَارَاةُ الْكِرِيكَةِ

شَعْبِيَّةٌ (ش. ب. ع.) عوامی

حَاذِرٌ (ح. و. ز.) حاصل کی۔ پالی ہے

هَوَاةٌ (ه. و. ی.) شائقین واحد ہواوی

اَسْتَادٌ سَيِّدٌ

شَاشَةٌ سَكِينٌ

المباراة النهائية فائز ہی

التنسيق والتنظيم نظر نسق

تَقَاعُدٌ (ق. ع. د.) وہ ریٹائر ہو گیا

كَرْسٌ (ك. ر. س.) اس نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے

يَهْلِكُونَ (ه. ل. ل.) وہ شور مچاتے ہیں۔

آدازیں بلند کرتے ہیں۔

سبق نمبر ۵

الدس الخامس والاربعون

بَاعَةُ الْجَلَاوِي (ب. ی. ع.) مٹائی پھینچنے والی

الرطبات (ر. ط. ب.) فحش بخش سامان

غور و نوش، مفرحات

كُفَاتٌ (ك. ف. ب.) کپڑے، کپڑے

السُّلَمُ (س. ل. م.) سیڑھی، زمین

جمع سلالیم

السَّمُوحُ اجازت دیے گئے، منظور شدہ

صَفَاةٌ (ص. ف. ر.) مزہ بجانوالی سیٹی

يُلَوِّحُ (ل. و. ه.) ہاتھ ہلا کر اشارہ کرتا ہے۔

سبق نمبر ۴۲

الدس الثاني والاربعون

الاحاديث النبوية

لَا تَعْمَ (ت. م. م.) تاکہ میں تکمیل کو پہنچاؤں

حَيْقَتُهُ (ح. ی. ع.) اسکی تباہی و بربادی

يَحْوِطُهُ (ح. و. ط.) وہ اسکی حفاظت کرتا ہے

الصَّرِيحَةُ (ص. ر. ع.) کشتی میں پھانسا

والتوفذرو. د. د.) اظہار محبت کرنا۔

حَاكٌ (ح. و. ك.) کھٹکنا

يَخَالِكُ (خ. ل. ل.) وہ دوڑتی کرتا ہے

يَلْدَغُ (ل. د. غ.) ڈسا جاتا ہے۔

وَأَبْدَمِنُ تَعُولُ (ع. و. ل.)

اپنے زیر کفالت لوگوں سے شروع کر

سبق نمبر ۴۳

الدس الثالث والاربعون

الخطب

خُطْبَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْ خَمِيرٍ كَلَّمَ شَامًا أَيْ مَتَامًا

سَدِّي (س. د. ی.) بیکار، لغو، فضول

اصلا ب (ص. ل. ب.) نلیں و لہد صلیبہ

معتدین (ع. د. سی) ظلم و زیادتی
کرنیوالے / حد سے تجاوز کرنے والا /
جارجیت کرنے والا

سبق نمبر ۴۷

الدس السابع والاربعون

عَرُوسُ الْجِبَالِ (صَيْفٌ صَبْرِي)

مناخ (ن. د. ع) آب و ہوا. جمع مناخات
الصيف المنصرم (ص. ر. م) گذشتہ موسم گریا
صربح (ر. د. ج) آرام و

ضابطاً (ض. ب. ط) افسر جمع ضباط
لا تقبل (ه. د. م. ل) تم مت مجبور نہ ہو گئے
موضع الكرامی (س. ج. د) چیزنگ لٹ

ملقب بالفولف (ل. ع. ب) گولف کا کھیل

السواح الاجانب (س. ی. ج) غیر ملکی

سیاح و امد ستیاح

شبی بيطه معمول چمیز

طراز النجوم الخمد فانیو سٹار ہوٹل

يَحْفَ (ج. ف. ف) ہجوم کیے رہتے ہیں

گھیرے رہتے ہیں۔

لَسْتَوْدِعُكُمْ اللّٰه (و. د. ع) اللہ حافظ ہیں

سپر و خدا کرتے ہیں۔

مَتَفَرِّجِينَ (ف. ر. ج)

تفریح کرنیوالے و امد متفرج

منحدراً (ج. د. ر) اتراتی۔

مُنْتَزِعَةً (ن. ز. ه) تفریح گاہ

سبق نمبر ۴۸

الدس الثامن والاربعون

الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ

فِي فَضْلِ الصِّدْقِ وَالْعَمَلِ الْجَادِ

حث (ع. ث. ث) اس نے آمادہ کیا

أَقْبَحَ (ق. ب. ج) بدترین۔ بہت ہی برا

طَيْبَةً (ط. ی. ع) پیچھے پیچھے چلانے کا۔

معالمها (ع. ل. م) آثار و تذخا ل۔ نشان

منزل و امد معلم

رواسی (ر. س. و) اونچائی۔ وہ بلند

شے جو بلائی نہ چکے واحد الرواسی

الجواری (ج. و. ر) کشتیاں و امد جاریہ

بخارک گیس۔ بھاپ۔ آئیم جمع اجنح و

احتیماً (ا. ج. م. ل) برداشت کرنے

اور وزن اٹھانے میں

جسم الاصل (ج. م. م) شدید خواہش

بَسْرَب (ز. ر. ر) مغلوب کر دیا۔

حباھا (ج. ب. و) ہیرہ دیا۔ بخش دیا

سبق نمبر ۴۶

الدس السادس والاربعون

مِنْ هَدْيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تَقِيْتُمُوهُمْ (ث. ق. ف) تم ان کو پاتے ہو

حد سے تجاوز کرنا۔ ظلم کرنا۔

الطَّاهُوتِ (ط. ع. ی) کسری و کملی

کاسرغز / شیطان / کاسرغز سے روکنے والا

جمع طواغیت اور طواغ

وَلَيَنْبَلُوْكُمْ (ب. ل. و) اور تم میں ضرور

آزادیں گے

عَدُوْكَ (ع. د. و) حد سے تجاوز کرنا

ظلم کرنا۔

سبق نمبر ۵۰
الدس الخمسون

فِي مُسَاعَدَةِ الْبَالِيسِيْنَ
تَجَدُّوْا (ج. رد) کسی کام کے لیے
بے لوث ہوتے اور کوشش کی

بالیس (ب. ع. س) تنگدست /
خستہ حال / مصیبت زدہ
جعم (ج. م. م) کسی بھی شے کا کثرت سے ہونا
وجیعة (و. ج. ع) درد و الم اور مرض
اِقْلَال (ق. ل. ل) غربت و تنگدستی
مال کی قلت پیدا کرنا
لِغَاطِفِ (خ. ط. ف) تیزی سے
اچکنے والے کے لیے

اَوْجَال (و. ج. ل) خوف / ڈر
واحد و جل
النَّال (ن. و. ل) سفادت کرنیوالا
عط کرنے والا

اثابة (و. ث. ب) بدلہ دینا
لوا دینا۔ جزا اور بدلے کا دن
ذابت (ذ. و. ب) پچھل گئی (برف یا
گھی کی طرح
جفت (ج. ف. ف) خشک ہو گئیں۔
حُشَاشَتًا (ح. ش. ش) ہمارے
آخری دم۔ باقی روح

أَنْيَابُهُ (ن. ی. ب) اسکے دانت
واحد نابک

أَجْنَبَتْهَا (ج. ن. ح) ان کے پر
بازو واحد جناح

الحيتان (ح. و. ت) مچھلیاں و امردو
الكوکب سارے واحد کوکب
حَظْ وَأَقْرَبُ (ح. ظ. ظ) بہت زیادہ حصہ
فَسْلِط (س. ل. ط) اس کو قدرت
عطا کی گئی۔ اختیار دیا گیا
هَلَكْتَهُ (ه. ل. ک) اس کا
مرف کرنا / خرچ کرنا
مُتَسِطِّينَ (ق. س. ط) انصاف
کرنیوالے واحد مقسط
السُّحْتِ (س. ح. ت) حرام کی کمائی
رشوت

سبق نمبر ۴۹

الدس لئاح والاربعون

فِي مَوْقِفِ السَّيَّارَاتِ
مِنْ فَضْلِكَ (ف. م. ل) ازراہ کرم
برہ مہربانی

على طول بالکل سیدھا
جُفِينَةَ (ج. ن. ی) باغیچہ
جنینات
كُفَّارِي (ك. م. س) کٹھنیکڑ
جدول الرحلات (ج. د. ل)
روانگی کا نام ٹیبل

مُزْعَجَةٌ (ز. ع. ج) تکلیف دہ
دَوِيَّةُ الْمِيَاهِ (د. و. ر) لیٹرن بیت الخلاء
شَنْطَةُ (ش. ن. ط) تھیلا ریگ
البُوقِ (ب. و. ق) ہارن جمع البواق

الکذبن رک. د. ر. (زندگی کی تلخیاں پانی لگ کر ہونا
 لم تہتوا ہر ب. ب. ب. تم بلکہ نہ ہو۔ تیزی اور
 پھر تمام مظاہرہ نہ کیا
 کافی رک. ف. ۶. بزرگ دینے والا
 جادو (ج. و. د.) انہوں نے شادی بھر لو عطر دیا
 اکلیل تاج جمع اکالیل.

ماقینا (م. ع. ق.) آنکھ سے آنسو
 بھرنے کی وہ جگہ جو ایک کی طرف ہو۔
 گوشہ چشم واحد مؤنث
 هنا (ہ. ن. و.) خوشگوار اور پر لطف ہونا۔
 بغیر مشقت کے حاصل ہونا
 یعقب (ع. ق. ب.) پیچھے آنا

ماڈل پرچہ حقیقۃ الادب الجزء الثانی

وقت 30 منٹ

(معروضی طرز)

کل نمبر 20

نوٹ: اپنا رول نمبر اور سوالوں کے جوابات اسی پرچہ پر دی گئی ہدایات کے مطابق لکھیے۔ کات کر یا مٹا کر لکھا ہوا جواب غلط تصور ہوگا۔ یہ حصہ

لازمًا جوابی کاپی کے ساتھ تسمی کیا جائے۔

1- مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب لفظ لگا کر مکمل کیجئے۔

- (i) هَذَا الْمِصْبَاحُ كَذَّبٌ بِبَيْدِكَ
(ii) لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ مِثْلُ خِصَالٍ
(iii) كَذَّ وَوَلَدَ الْأَفْغَانِيُّ بَقَرِيَّةً
(iv) كُحِبَّ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ لَكُمْ
(v) كَرَّ الشَّيْءُ وَهِيَ عَاصِمَةٌ
(vi) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا بِهِ شَيْئًا
(vii) وَهِيَ عَاصِمَةٌ الْيَلِيمِ بَنَجَابٍ
(viii) إِنَّ اللَّهَ لَا مَنْ كَانَ مُخْتَلًا لِقُورًا
(ix) مَا مَعْنَى "الغليظون"
(x) هَلِ الطَّيِّبُ
(xi) إِنَّ الْمُبِيرِينَ كَانُوا الشَّيْطَانِ
(xii) الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْبُيَّانِ
(xiii) أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ
(xiv) بِلَادِي وَرُوْحِي الْفِدَا
(xv) تَحَوَّلَ الْأَفْغَانِيُّ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى
2- درج ذیل ماضی سے مضارع اور مضارع سے ماضی کے صیغے بنائیے۔

| | |
|----------|---|
| سَقَطَ | : |
| كَتَبَ | : |
| عَرَفَ | : |
| يَكْفُرُ | : |
| يَسْمَعُ | : |

ماڈل پرچہ حقیقۃ الادب جز ثانی

وقت 2:30 گھنٹے

انشائیہ طرز (حصہ اول)

کل نمبر 60

(20)

مندرجہ ذیل سوالات میں سے دس (10) سوالات کے عربی میں جوابات دیجئے۔

- (i) لِمَاذَا عَرَجَ الْأَفْغَانِيُّ مِنْ مَسْقَطٍ رَأْسِهِ؟ (ii) مَاذَا يُحِبُّ الشَّعْبُ الْبَاكِسْتَانِيَّ؟ (iii) إِلَى مَنْ كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرِّسَالَةَ؟ (iv) أَيْنَ تَتَغَيَّرُ الْمَنَاطِرُ وَكَيْفَ؟ (v) هَلِ تُحِبُّ بِلَادَكَ وَتَفْتَدِيهَا؟ (vi) هَلِ يُمَكِّنُ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ (vii)

مَا هِيَ الدُّوْلُ الَّتِي تَتَّصِلُ بِهَا حُلُوْدُ بَاكِسْتَانِ؟ (viii) اَيْنَ لَقِيَ حَسَنَ حَسَبَهُ؟ (ix) مَاذَا اَفْرَدَ كَارِلِيلُ فِي كِتَابِهِ "الْبَطَال"؟
 (x) مَاذَا يَقُوْلُ اَسَامَةُ لِلْعَاذِمِ؟ (xi) مَاذَا كَانَ اَجْرُ مَايْتَمَنِي لِيُصَلَّ لِي حَيَاتِهِ؟ (xii) اَيْنَ يَنْزِلُ عَادِلٌ مِنْ سَبَاْرَةٍ اُجْرِيَّةٍ؟
 (xiii) مَا هُوَ رَاسُ كُلِّ خَطِيْبَةٍ؟ (xiv) وَمَا هِيَ لَعْنَةُ بَاكِسْتَانِ الْقَوْمِيَّةِ؟ (xv) اَيْنَ يَقْبَضِي الْمُوَاظِنُونَ الصَّيْفَ؟
 (ل) مندرہ ذیل میں سے کوئی سے پانچ جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔

(10)

-4

(i) میں ہمیشہ سردار کے طور پر زندہ رہوں گا۔ (ii) ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ (iii) رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (iv)
 ممکن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ (v) پاکستان ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے۔ (vi) پاکستان 1947ء میں قائم ہوا۔
 (vii) اس نے ایک کتاب تالیف کی۔ (viii) رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی طرف دعوت دی۔

(ب) درج ذیل میں سے پانچ کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھئے: حِلِيَّةٌ - اُمٌّ - عِلْمٌ - سَبِيْلٌ - اَعْيَانٌ - اَمْتَجَاةٌ - دُوْرٌ - اَبْدٌ - (05)

(ج) درج ذیل میں سے پانچ الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے: مَهْدٌ - مَعْرُوْفٌ - غَيْرٌ - اِبْنُ السَّبِيْلِ - وَصَفَقَ اَلْمُ قُرْصٌ - كَبُوْلَدٌ (05)

(حصہ دوم)

5- مندرجہ ذیل میں سے دو اجزا کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔

(ل) قَبِيْلَتَنَا فِي بِلَادِ الْعَرَبِ نَكْتُ وَالْاَكْبَرُ يَرُوْبُهَا النَّاسُ عَلٰى اَلْسِنَةِ الشَّخْصِيَّاتِ قَدِ اِشْتَهَرَتْ وَعُرِفَتْ بِذَلِكَ لِي الْقَدِيْمِ
 وَالْحَدِيْثِ، وَالْبَعْضُ مِنْهَا حَقِيْقَةٌ وَالْبَعْضُ الْاٰخَرُ مِنْهَا خَوَافِيَةٌ۔

(ب) لِلْمُؤْمِنِ عَلٰى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ خِيَالٍ، يَمُوْدُهُ اِذَا مَرِيْضٌ، وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيَجِيْبُهُ اِذَا دَعَا، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَتْ، وَيُسَمِّيْتُهُ
 اِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ۔

(ج) يَصِلُ عَادِلٌ اِلَى مَحَطَّةِ الْقَطَارِ وَبِيْدِهِ حَقِيْبَةٌ وَيَقِفُ فِي اِنْتِظَارِ الْقَطَارِ - وَيُوْجَدُ عَلٰى الرَّصِيْفِ بَاعَةٌ اَلْحَلَاوِي وَالسَّاجَانِي
 وَالْمَرْطَبَاتِ وَمَا اِلَى ذَلِكَ - يَقِفُ عَادِلٌ اَمَامَ كُتُبِ الْكُتُبِ۔

درج ذیل قطعات میں سے صرف دو کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔

5+5=10

(ل) كُنْ فِي الدُّرَى يَا مَوْطِنِيْ اَوْ فِي الشُّرَى

اَلْاُمُّ تَجْمَلُ فِي عِيُوْنٍ وَلِيْدَهَا

لَا يَغْتَشِقُ الْاٰخَرَارُ غَيْرَ بِلَادِهِمْ

عَلٰى قَدْرِ اَهْلِ الْعَزْمِ تَابِي الْعَزَائِمِ

وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيْرِ صِفَارِقَا

تَجَمَّعَتْ فِي فُوَادِهِ هَمَمٌ

سَفَى الْفَتَى لِرِزْقِهِ عِبَادَةٌ

لَاَنْ فِي السُّغْمِي صِلَاحُ الْكُوْنِ

مَنْ يَنْسَعِ لِرِزْقِ اَتَاهُ طِيْعَا

اَلْكُتُبُ اَلْحَبِيْبِي طَلَبًا بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ اِلَى رَيْسِ الْكَلِيَّةِ لِحَصُوْلِ الْاِجَازَةِ الْاَمْرِيَّةِ

(10)

-7

(رہنما صاحب کے نام درخواست رخصت ضروری کام عربی میں تحریر کیجئے۔)

(یا) اَلْكُتُبُ رِسَالَةٌ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ اِلَى صَدِيْقِكَ تَعَزِيَةٌ عَلٰى وِفَاةِ اَبِيْدِ

(دوست کو اس کے باپ کی وفات پر تعزیتی خط عربی میں تحریر کیجئے۔)

(05)

-8

نظروں سے مضارع کی گردان لکھیے۔